



## سوال

(493) نمازی کے سترہ کی حدود

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

کیا مسجدوں میں موجود قالینوں اور دریوں وغیرہ کے کناروں کو نمازی کے لئے سترہ قرار دیا جاسکتا ہے؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلوة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

قالینوں اور دریوں وغیرہ کے کناروں کو نمازی کے لئے سترہ قرار نہیں دیا جاسکتا کیونکہ یہ سنت ہے کہ سترہ پالان کی کیلی (پچھلی لکڑی) کے مانند کوئی کھڑی چیز ہو یا اس سے کوئی اونچی چیز مثلاً دیوار ستون اور کرسی وغیرہ بھی سترہ ہو سکتی ہے اگر اس طرح کوئی چیز پاس موجود نہ ہو تو امام یا منفرد ہونے کی صورت میں اپنے سامنے عصا وغیرہ کو گاڑ لے مقتدی کے لئے امام کا سترہ ہی کافی ہوگا۔ اور اگر کسی ایسی جگہ نماز پڑھ رہا ہو جہاں سترہ کے لئے کوئی بھی چیز موجود نہ ہو تو پھر زمین پر نط کھینچ لے۔

اس مسئلہ میں اصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ:

«اذا صلی احدکم فلیصل الی سترہ ویدن ہما» (سنن ابی داؤد)

"جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اسے چاہیے کہ سترہ کی طرف نماز پڑھے اور سترہ سے قریب ہو کر کھڑا ہو۔"

اس حدیث کو امام ابو داؤد اور رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا ارشاد یہ ہے کہ:

«یتعلق صلاۃ المرء المسلم اذا لم یکن ین یدہ مثل مؤخرۃ الریح والمرأۃ والجمار والکعب الاسود» (صحیح مسلم)

"عورت گدھے اور کالے کتے کے (نمازی کے) آگے سے گزرنے سے مسلمان آدمی کی نماز ٹوٹ جاتی ہے جب اس کے سامنے پالان کی کیلی کی طرح (سترہ) نہ ہو۔"

اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد گرامی یہ بھی ہے کہ:

«اذا صلی احدکم فلیصل صفاً ووجہہ شیافان لم یجد فلیصب عصافان لم یجد فلیخط خطاً ثم یرضہ من مین یدہ» (سنن ابن ماجہ)

جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو وہ اپنے چہرے کے سامنے کوئی چیز رکھ لے اگر کوئی چیز نہ پائے تو عصا گاڑ لے اگر عصا بھی نہ ہو تو نخط بھینچ لے تو پھر آگے سے گزرنے والی کوئی چیز نقصان نہ دے گی۔"

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے "بلوغ المرام" میں لکھا ہے۔ کہ اس حدیث کو مضطرب قرار دینے والے کی بات درست نہیں ہے کیونکہ یہ حدیث حسن ہے واللہ ولی التوفیق (شیخ ابن ہذا ما عنہ فی والند اعلم بالصواب)

## فتاویٰ اسلامیہ: جلد 1

صفحہ نمبر 414

محدث فتویٰ